



گول غذائیں

بچوں کی سانس کی نالی بند کر سکتی ہیں

لمبائی میں اور چار حصوں میں کاٹیں

CUTGRAPES.ORG

بچوں کا لیے

اس طرح پیش نہ کریں



پورا انگور



عرضی طور پر کاٹیں
(گول قتل یا ادھ)

ان غذاؤں پر بھی لاگو ہوتا ہے



چیری ٹمائٹر



بڑا بلیو بیریز
(پورا)



گول ساسیج کا قتل
(ٹاٹ ڈاگ)



کوئی بھی گول غذا

مثالیں: انگور، چیری ٹمائٹر، بڑا بلیو بیریز، گول ساسیج کا قتل، یا کوئی بھی گول غذا

زیادہ محفوظ: لمبائی میں چار حصوں میں کاٹیں

1



پورا انگور

2



لمبائی میں نصف کاٹیں

3



لمبائی میں چار حصوں میں کاٹیں

چھوٹے ٹکڑے کاٹیں زیادہ محفوظ ہوتے ہیں اور بچوں کی سانس کی نالی بند کرنے کا امکانات کم رکھتے ہیں



اگر دم گھٹنے لگے: فوراً ایمرجنسی سروسز کو کال کریں

